

Ich spreche Urdu, Englisch, Französisch, Punjabi, Hindi und Deutsch. In Stinatz habe ich sogar ein wenig Kroatisch gelernt. Nach der Matura strebe ich ein Studium an, das mich befähigt eines Tages im diplomatischen Dienst zu arbeiten. An meiner jetzigen Schule besuche ich das Wahlpflichtfach „Interkulturelle Kommunikation“. Dort habe ich meinen MitschülerInnen ausführlich über meine Heimat erzählt, und zwar auch wie man eine Hochzeit und andere Feste feiert. In meiner Klasse befinden sich viele SchülerInnen verschiedener Herkunft. Interkulturelles Lernen bedeutet für uns einander besser kennen zu lernen.  
Amara Abdul, 7C

جہاں میں ابھی بھی ذہن تعلیم ہوں۔ اور اگلے سال میری گریجویشن مکمل ہو جائے گی۔ مجھے اپنی مادری زبان پنجابی اور اردو کے علاوہ انگریزی، فرانسیسی، ہندی آتی ہے اس کے علاوہ تھوڑی بہت کرواٹیشن بھی آتی ہے۔ میں ایک سفیر بننا چاہتی ہوں۔ جس کے لیے میں وچ گریجویشن کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہوں۔ اور اور اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے میری ماس میں مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں۔ جس سے ہمیں مختلف تہذیبوں کا بہت جانتا ہے۔ اور میں نے کالج میں خاص خصوصیات کے طور پر دو سری تہذیبوں کے ساتھ تعلق رکھا ہے۔ جس سے مجھے اپنی تہذیب کے بارے میں دوسرے بچوں کو بتانے کا موقع ملتا ہے۔ اور میں اپنے ملک رسم و رواج مثلاً شادی بیاہ اور دوسرے تہواروں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اور مجھے دوسری تہذیبوں کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔



2005 bei der Hochzeit meines Bruders in Karachi